

Q9. Translate the following passage into English.

اس کرہ ارض پر زندگی کو تباہی بربادی اور غیر فطری اور غیر طبعی موت سے بچانے کے لیے بقائے باہمی کے اصولوں کی پابندی ایسی ناگزیر ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی اس کا شعور رکھتے ہیں ہیں جنگلی حیات کا معمولی مشاہدہ کرنے والوں کو یہ بھی علم ہے کہ مختلف انواع کے جانور باہم مل کر رہتے ہیں۔ چارے پانی کی تلاش میں اجتماعی سفر کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے رہتے ہیں اپنی خوراک کے حصول کی جدوجہد میں ایک دوسرے کو فنا کر دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ درندے اگر چرندوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی تاہم ان کی چیڑ پھاڑ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ درندوں کے برعکس انسان ہیں کہ ان کی بھوک ان کی زندگی میں کبھی مٹی نظر نہیں آتی ان کا پیٹ جیتے جی ممکن حد تک سب ہڑپ کر لینے کے باوجود

نہیں بھرتا تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ تاہم تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دور ایسا نہیں رہا جو انسانوں میں باہمی محبت کے جوت جگانے والوں کی جدو جہد سے خالی رہا ہو۔

Translation

It is very important to socialize to prevent destruction of Earth. It is noticed that animals also socialize.

Animals socialize to search food and shelter, and they do not harm each other. Although many animals kill and eat other animals. But they do not harm each other after fulfilling the stomach. On the other hand, human hunger never ends. But it is evident from history that Earth had never emptied from kind-hearted and lovely human beings.

